

تاریخ: 25/2019 (اڈاکریسٹنٹ خاندان کی کمیٹی) رٹ 1 وسر رہنما کی سرکاری کمیٹی

تاریخ: 25/2019 (اڈاکریسٹنٹ خاندان کی کمیٹی) رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

1. جسٹس کی کمیٹی 2 وسر ڈاکٹر (س) کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

2. (س) جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

2. جسٹس کی کمیٹی 3 وسر ڈاکٹر (س) کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

3. (س) جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

3. جسٹس کی کمیٹی 9 وسر ڈاکٹر (س) کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

9. (س) جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر
500,000/- (پانچ لاکھ روپے) کی رقم کی سرکاری کمیٹی کی قیادت میں
جسٹس کی کمیٹی کی قیادت میں رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر رٹ 1 وسر

٤٤٤
٤٤٤
٤٤٤

8. ٤٤٤ 11 ٤٤٤ (٤) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

11. (ج) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

(ب) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

(ا) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

(د) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

9. ٤٤٤ 12 ٤٤٤ (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

12. (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

10. ٤٤٤ 12 ٤٤٤ (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

12. (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ 8/2009 (٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

11. ٤٤٤ 12 ٤٤٤ (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

12. (س) ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤

٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

ii. ٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

iii. ٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

(4) ٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

(5) ٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

(6) ٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤
٢٠٠٤ : ٢٠٠٤

(10) i. 2 (2) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 2 (ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz)
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

ii. (i) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

14. ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 12 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz (ii) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

12. (ii) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

15. ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 12 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz (iii) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

12. (ii) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

(I) ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 11/2009
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 4 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 9 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 11 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 5/2013
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 1-27 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz
 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz 13/2010
 13-1 ḥurūf al-ḥamz al-ḥamz al-ḥamz

(2) ...

...

(3) ...

...

(4) ... 1/2007

...

(5) ...

...

i. ...

ii. ...

(6) ...

...

(7) ...

...

(8) ...

...

(14) ...
...
...
...
...
...

(15) ...
5.000/- (...)
...

(16) ...
1,000/- (...)
...

(17) ...
1/2007 (...)
...

() ...
8/2009 (...)
...
...

() ...
...
...
...

16. ... 12 ...

12-1 () ...
...
...

() ...
...
...
...

(س) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(س) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(ه) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(1) د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(2) د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(3) د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(د) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(و) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(ز) د ژانورۍ تر ټولو لږ شمېر ولسوالۍ لري او د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي. د ولسوالۍ شمېر د ټول شمېر ۱۰٪ نه لږ وي.

(1) 3/2010 : 3/2010
 (2) 3/2010 : 3/2010
 (3) 3/2010 : 3/2010

(4) 3/2010 : 3/2010
 (5) 3/2010 : 3/2010
 (6) 3/2010 : 3/2010

(7) 3/2010 : 3/2010
 (8) 3/2010 : 3/2010
 (9) 3/2010 : 3/2010

(10) 3/2010 : 3/2010
 (11) 3/2010 : 3/2010
 (12) 3/2010 : 3/2010

(1) 3/2010 : 3/2010
 (2) 3/2010 : 3/2010

(2) 3/2010 : 3/2010
 (3) 3/2010 : 3/2010

(3) 3/2010 : 3/2010
 (4) 3/2010 : 3/2010

(4) ...

(5) ...

(ص) ...

(ح) ...

(ذ) ...

17. ...

13. (3) ...

... (3) ...

25. ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٣٢ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ (س) ٤ (6) ٥٣٥٠ ٤١٣٣

32. (س) (6) ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

26. ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٣٤ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

34. (س) ٣٤ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ (س) ٤ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

27. ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٣٦ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ (س) ٤ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

36. (س) ٣٦ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ (س) ٤ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

28. ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٣٩ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ (س) ٤ (iii) ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣

39. (س) (2) iii. ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣
٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣ ٥٣٥٠ ٤١٣٣

32. חשבוניו תיבניו 44 וסר דאורי (ס) ארסרסו יכוניו ארסורנאמסו.

44. (ס) ד תיבניו תניסו רטר דאורי נאסע ארס יכוניו דאורי, א תיבניו

ארסרסו ד תיבניו 54 וסר דאורי סרוסו 55 וסר דאורי תניסו

ויכוניו יכוניו ארסרסו ארסרסו ארסרסו ארסרסו, ד תיבניו

43 וסר דאורי תניסו ארסרסו ארסרסו ארסרסו ארסרסו ארסרסו ארסרסו

ארסרסו.

33. חשבוניו תיבניו 46 וסר דאורי ארסרסו יכוניו ארסורנאמסו.

46. (ס) ד תיבניו 41 וסר דאורי (ר) ארס 57 וסר דאורי תניסו

עניו ארסו
ארסורנאמסו

ררסרסו ארסו ארסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

א ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

א ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

(ס) ארס 58 וסר דאורי ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו 12 (ס)

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו.

(ס) ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו.

(ס) ד דאורי (ס) ארסו יכוניו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו.

34. חשבוניו תיבניו 49 וסר דאורי ארסרסו יכוניו ארסורנאמסו.

49. ד תיבניו 42 וסר דאורי ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

ארסורנאמסו ארסורנאמסו
ארסורנאמסו ארסורנאמסו
ארסורנאמסו ארסורנאמסו
ארסורנאמסו ארסורנאמסו

43 וסר דאורי תניסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו ארסורנאמסו

(۷) ۽ ٿي ته انهن ٻنهي ڏينھن تي به ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

پر انهيءَ ڏينھن تي به ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(۸) انهن ٻنهي ڏينھن تي به ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(1) ۽ ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(2) ۽ ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(۹) ۽ ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(۱۰) ۽ ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

(۱۱) ۽ ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي، پر ڏينھن جو ڏينھن ۽ رات جو رات ڪرڻو آهي.

37. 51 50: 37: 231

51. 50: 37: 231

38. 54 50: 37: 231

54. (1) 50: 37: 231

39. 55 50: 37: 231

55. (9) 50: 37: 231

40. 55 50: 37: 231

55. (9) 50: 37: 231

41. 55 50: 37: 231

55. (2) 50: 37: 231

50. ... 68 ... (2) ...

68. ... (2) ...

...

51. ... 68 ... (2) ...

68. ... (2) ...

... ..

52. ... 70 ... (2) ...

70. ... (2) ...

... ..

... x ...

(1) " ... "

i. ...

... ..

برائی کی اوجھل، جس کے ساتھ ساتھ (لاسنہ) توروں کو لاس
 رسو لاس (اے)۔

ii. توروں کے لئے اس کے لئے سکھانہ لاس توروں کے لئے
 اے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے،
 اے رسو لاس توروں کے لئے توروں کے لئے سکھانہ لاس
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے

iii. توروں کے لئے اس کے لئے سکھانہ لاس توروں کے لئے
 اے رسو لاس توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے

(2) "برائی کے لئے"

i. توروں کے لئے اس کے لئے سکھانہ لاس توروں کے لئے
 اے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے،
 اے رسو لاس توروں کے لئے توروں کے لئے سکھانہ لاس
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے

ii. توروں کے لئے اس کے لئے سکھانہ لاس توروں کے لئے
 اے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے،
 اے رسو لاس توروں کے لئے توروں کے لئے سکھانہ لاس
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے

iii. توروں کے لئے اس کے لئے سکھانہ لاس توروں کے لئے
 اے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے
 توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے توروں کے لئے

אם אכן נראה כי דברי רש"י בדברי רש"י הם דברי רש"י
בדברי רש"י.

57. השוואת דברי רש"י 79 וסר דברי רש"י (רע) רש"י רש"י רש"י.

79. (רע) "אמר" לדברי רש"י רש"י, אמר רש"י ("רש"י רש"י") אמר

רש"י ("רש"י רש"י"), רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

58. כי דברי רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י

רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י רש"י